

پر (نیز ماہ رمضان میں باقاعدہ پیشگی تیاری (یعنی باقاعدہ تمام امور کی تحریری شرعی رہنمائی) کے ساتھ مخصوص پلاس پر) "مسجد اور نماز تراویح" نیز نئی جگہوں پر ان کے ساتھ ساتھ مدرسہ المدینہ کی ترکیب کروانا کسی کے انتقال پر اُس کے ایصالِ ثواب کے لیے ورثاء کو مکمل مسجد و مدرسہ بنانے یا مسجد و مدرسہ کی تعمیرات میں حصہ لینے کے لیے انفرادی کوشش کرنا نئی سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی کالونیوں میں بالخصوص ایسی جگہوں پر مسجد و مدرسہ کی ترکیب کرنا جہاں اہلسنت کی مسجد و مدرسہ ہی نہیں نیز عوامی جگہیں مثلاً لاری اڈے، اسٹیشن، ہوائی اڈے، ہسپتال، تعلیمی ادارے، مال پلازے اور سیاحتی مقامات (Tourist Places) وغیرہ طے شدہ ہدف پورا کروانا مثلاً امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً خصوصی ترغیب پر مساجد و مدارس بنوانا مثلاً فیضانِ جمالِ مصطفیٰ، فیضانِ مصطفیٰ، فیضانِ شاہِ مدینہ، فیضانِ انبیاء، فیضانِ خلیل اللہ، فیضانِ نبی، فیضانِ نور اللہ، فیضانِ اہلبیت، فیضانِ امہات المؤمنین، فیضانِ عائشہ، فیضانِ خاتونِ جنت، فیضانِ مولا علی، فیضانِ مرتضیٰ، فیضانِ امام حسین، فیضانِ امام حسن، فیضانِ حسنین، فیضانِ بنی ہاشم، فیضانِ صحابہ، فیضانِ صدیق اکبر، فیضانِ فاروق اعظم، فیضانِ عثمان غنی، فیضانِ امیر معاویہ، فیضانِ اولیاء، فیضانِ غوث الاعظم، فیضانِ غریب نواز، فیضانِ برکات، فیضانِ احمد رضا، فیضانِ رضا، فیضانِ قطب مدینہ، فیضانِ ضیاء الدین، فیضانِ امجد علی، فیضانِ سٹ، فیضانِ اسلام، فیضانِ مکہ مدینہ، فیضانِ حریم، فیضانِ کعبہ، فیضانِ حرم، فیضانِ عرب، فیضانِ بہارِ مدینہ، فیضانِ جنت، فیضانِ بقیع، فیضانِ اجیر، فیضانِ بغداد، فیضانِ رحمت، فیضانِ کنز الایمان، فیضانِ صراط الجنان، فیضانِ کرم، فیضانِ دعوتِ اسلامی، فیضانِ عطار، فیضانِ عبیدرضا، فیضانِ مشتاق، فیضانِ زم زم، فیضانِ مفتی دعوتِ اسلامی اور فیضانِ اراکینِ شوریٰ وغیرہ (نوٹ: امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے فیضانِ امیر معاویہ 122 جبکہ فیضانِ اہلبیت 2121 مساجد بنانے کا ہدف ہے) مدنی بستہ مجلس کی معاونت سے بالخصوص زیر تعمیر مساجد و مدارس دعوتِ اسلامی اور مساجد و مدارس کے خالی پلاس پر مدنی بستے/ڈونیشن سیل کا اہتمام رکھنا ریجن سطح پر متعلقہ ذمہ داران کے ذریعے جگہ کی خریداری اور تعمیرات کے لئے ریزرو فنڈ (Reserve Fund) کی مضبوط ترکیب بنوانا ملک بھر کے ہر ڈویژن کا باقاعدہ اہداف کا نقشہ بنوانا (کہاں کتنی مساجد و مدارس کی حاجت ہے) اور پھر باقاعدہ مدنی پھول طے کر کے اس ہدف کو پانے کی کوشش کرنا مختلف ڈاکومنٹری (Documentary) بنوا کر عام کرنا سیاحتی مقامات (Tourist Places) پر مساجد بنانے کا نظام اپڈیٹ رکھنا شعبے کو مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپڈیٹ رکھنے کے لئے کوشش کرنا اور ریجن ذمہ داران سے فالو اپ کرنا (مجلس خدام المساجد و المدارس کے ذمہ داران سے تمام مساجد اور مدارس کے پراجیکٹس کی ویڈیو (Video) بنا کر مجلس مدنی چینل اور مجلس سوشل میڈیا کو جمع کروانا اور روزانہ ان سے ایک پراجیکٹ کی مدنی خبر چلوانا (نوٹ: سوشل میڈیا کے تعلق سے مجلس خدام المساجد و المدارس کے ویب سائٹ ذمہ دار بھی ہیں جو نگرانِ مجلس کے تحت ہیں) پلیننگ (Planning) کر کے فی ریجن ماہانہ کم از کم ایک خریداری کروانے اور فی کابینہ ماہانہ کم از کم ایک جگہ لینے کے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ریجن ذمہ دار کو تحریری طور پر اہداف دینا، درپیش مسائل کا ہاتھوں ہاتھ حل کرنا، شخصیات سے ملاقاتیں کرنے کا طریقہ سکھانا، جو شخصیات مدنی عطیات/جگہ دینے کی نیت کریں ان سے وصولی کا ہدف دینا، وقتاً فوقتاً بالخصوص دورانِ جدول اپنے شعبے کی اپڈیٹس ذمہ داران (نگران و اراکین) اور شخصیات کو دینا، ریجن سطح کی ایڈمن مجلس (یعنی شخصیات پر مشتمل مجلس) بنوانا اور فعال کروانا۔

4. **کارکردگی فارم و مدنی پھول:** اپنے شعبے (نیز مجلس اثاثہ جات، مجلس تعمیرات، مجلس اجارہ اور مجلس مالیات) کے اپ ڈیٹ (UPDATE) مدنی پھول، تمام سطح کے کارکردگی فارمز اور تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات ✨ مرکزی مجلس شوریٰ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ، رکن شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں کا مطالعہ کرنا، سمجھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا اور متعلقہ ذمہ داران تک پہنچا کر ملنے کی تصدیق (Confirmation) کے بعد باہتمام سمجھانا اور طے شدہ کاموں کا نفاذ کروانا۔

5. **تقرری و ریکارڈ:** تمام سطحوں (ریجن، زون، کابینہ، ڈویژن) نیز ریجن اور زون سطح پر 5 رکنی مجلس پر تقرری پوری کرنا، پوری رکھنا اور ہر ماہ فعال/غیر فعال ذمہ داران کا جائزہ لینا، 5 رکنی مجلس (1- ریجن/زون ذمہ دار، 2- مسجد بناؤ تحریک ذمہ دار، 3- نیو سوسائٹیز و کالونیز ذمہ دار، 4- ایڈمن (شخصیات ذمہ دار) اور 5- پراپرٹی ڈیلر) (نوٹ: 1- کسی بھی ذمہ دار کی تبدیلی/تقرر پاک کابینہ دفتر سے جاری تحریری مدنی پھولوں کے مطابق کرنا، 2- ریجن/زون ذمہ دار کے علاوہ تمام ذمہ داران اپنے 2 معاون بنائیں جو ضرورتاً کاموں میں ان کی مدد کریں، 3- 5 رکنی مجلس میں کاروباری اور مالی طور پر مستحکم پُرانے اسلامی بھائیوں کو شامل کیا جائے ان کے ذمے خود کفالت (مساجد و مدارس کی جگہ کی خریداری اور تعمیرات نیز دیگر معاملات کے لیے شخصیات سے مدنی عطیات جمع کروانے وغیرہ) کا کام ہے) ✨ ہر سوسائٹی میں مدنی کاموں پر ذمہ دار مقرر کرنے میں متعلقہ نگران مشاورت کی معاونت کرنا ✨ اپنا متبادل تیار رکھنا اور ماتحتوں کو بھی اس کا ذہن دینا ✨ شعبے میں مدنی کاموں کی مضبوطی اور اسکی ترقی کے لیے نئے نئے ذمہ داران تیار کرنا اور شرعی، اخلاقی اور تنظیمی مدنی پھول پیش کرتے رہنا ✨ شعبے سے متعلقہ تمام مساجد و مدارس (بنام دعوتِ اسلامی، الحاق اور ٹرسٹ) کی لسٹ اور کاغذات کی پلاٹ و انٹر مکمل فائلز اور منسلکین نیز عاشقانِ رسول کی لسٹ بنانا اور بنوانا، بااثر شخصیات کے نام، نمبر مع ایڈریس کا ڈیٹا احسن انداز (مثلاً کیٹگری و انٹر (1- بڑی، متوسط، عام شخصیات)، (2- ہفتہ وار، 15 دن بعد، ماہانہ، ششماہی، سالانہ اور ایونٹ و انٹر مدنی عطیات دینے والی شخصیات کی الگ الگ لسٹ اپ ٹو ڈیٹ انداز میں محفوظ رکھنا اور رکھوانا اور ان سے مختلف مواقع پر رابطے میں رہنا۔ اپڈیٹ لسٹیں ہر ماہ اپنے رکن شوریٰ کو اور پاک کابینہ آفس تقرری ذمہ دار کو بھیجنا۔

6. **دور جدید کے تقاضے:** ✨ اپنے شعبے کی مضبوطی و ترقی کے لیے کوشاں رہے مثلاً سافٹ ویئر میں کارکردگی کا اندراج ✨ الحمد للہ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ (دعوتِ اسلامی) کی 30 سے زائد سلیکشنز بن چکی ہیں ان کو اور بطور خاص وقف املاک سلیکشن کو استعمال کرنا اور شعبے سے متعلقہ عاشقانِ رسول اور شخصیات کو ان کا تعارف پیش کر کے انسٹال کرنے اور دوسروں کو استعمال کروانے کی ترغیب دلانا۔ (ان سلیکشنز کے لنک اس ایک سلیکشن Dawateislami Digital Services میں موجود ہیں) اسی طرح دعوتِ اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ WWW.DAWATEISLAMI.ORG کا اور بطور خاص شعبے کی ویب سائٹ <https://buildamasjid.net/> نیز تنظیمی ویب پج <https://www.dawateislami.org/home/Majlis-e-Khuddamul%20Masajid-walmadaris> کا وزٹ کرتے کرواتے رہنا ✨ بالخصوص ذمہ داران اور گھر گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلانا ✨ ماہنامہ فیضانِ مدینہ کی بگنگ کرنا اور کروانا ✨ ہفتہ وار بڑی راتوں اور ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں اپنے شعبے کے بستے اور پینا فلیکس لگوانا ✨ مدنی چینل اور مجلس سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنا، شعبے کی مدنی خبریں دینا۔

7. **مدنی کورسز:** خود مدنی کورسز کرنا نیز ہر ماہ اہداف طے کر کے یوں ہی وقتاً فوقتاً شعبے کے تحت پیشگی بھرپور تیاری کے ساتھ تمام ذمہ داران و عاشقانِ رسول کو مختلف جزوقتی و کل وقتی نیز آن لائن مدنی کورسز (مثلاً اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس اور مدنی کورس وغیرہ) بالخصوص فیضانِ نماز کورس کروانا۔

8. **خاص مواقع:** اپنے شعبے کی 12 ماہ میں کم از کم ایک بار عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کراچی میں حاضری کروانا ❀ بڑی راتوں کے اجتماعات (اجتماعِ میلاد، اجتماعِ غوثیہ، اجتماعِ یومِ غریب نواز، اجتماعِ معراج، اجتماعِ شبِ براءت، اجتماعِ شبِ قدر اور اجتماعِ یومِ رضا وغیرہ) نیز جلوسِ میلاد ❀ نگرانِ شوریٰ اور رکنِ شوریٰ کے سنتوں بھرے بیانات ❀ نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ کے "ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات" ❀ مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات ❀ 26 ویں شریف (امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے یومِ ولادت پر یہ ترکیبِ اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے) کے لیے ایصالِ ثواب کے تحائف جمع کروانا ❀ محرم الحرام اور دیگر مواقع کے خصوصی مدنی قافلے سفر کروانا ❀ پورے ماہِ رمضان اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے شعبے سے عاشقانِ رسول تیار کرنا۔

9. **ازدِیادِ حُب:** غمی خوشی کے مواقع نیز وقتاً فوقتاً (بالخصوص اپنے شعبے والے سابقہ اور موجودہ) عاشقانِ رسول اور شخصیات سے شرعی، تنظیمی اور ملکی قوانین کے مطابق ملاقات، عیادت، تعزیت اور کفن و دفن وغیرہ (پیغامات، مکتوبات و اورادِ عطاریہ جاری کروانا) ❀ ماہانہ کتب و رسائل اور ماہنامہ فیضانِ مدینہ پہنچانے کی تراکیب کرنا ❀ ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول میں داخل کروانا ❀ ان کے گھر میں مجلسِ معاونت برائے اسلامی بہنیں کے ذریعے مدنی ماحول قائم کرنا۔

10. **مرحومین دعوتِ اسلامی:** والدین و خاندانِ امیرِ اہلسنت، مرحوم نگران و اراکینِ شوریٰ، ذمہ داران، شہداء و مفتی دعوتِ اسلامی اور مجاہدین دعوتِ اسلامی کے ایام پر ایصالِ ثواب کے اجتماعات کرنا/ کروانا یا شرکت کرنا/ کروانا۔

11. **مدنی عطیات و خود کفالت:** اپنے شعبے کو %100 خود کفیل کرنے کے لئے (بالخصوص مدنی مشوروں میں) انفرادی ماہانہ و سالانہ اہداف دینا اور اس کا جائزہ کرتے اور کرواتے رہنا (خود کفیل کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو ذمہ داری دینا) ❀ ماہانہ مدنی عطیات بکس، گھریلو صدقہ بکس اور مدنی بستے بڑھانے میں معاونت ❀ سالانہ مدنی عطیات (رجب، شعبان، رمضان اور شوال) ❀ ٹیلی تھون ❀ قربانی کی کھالیں ❀ مختلف اجتماعات کے لیے مدنی عطیات جمع کرنا۔ اس کے لئے موقع کی مناسبت سے بڑے مدنی مراکز (فیضانِ مدینہ) بالخصوص عالمی مدنی مرکز کراچی، دارالافتاء اہلسنت (ملاقات)، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول (تعمیر شدہ و زیرِ تعمیر) میں شخصیات کی حاضری پیشگی تیاری و متعلقہ ذمہ دار کی مشاورت کے ساتھ کروانا ❀ شخصیات کے اعزاء و اقربا سے رابطے میں رہنا ❀ اہم شخصیات کی الگ سے وقت لے کر اپنے رکنِ شوریٰ سے ملاقات اور مدنی حلقے منعقد کروانا۔

12. **مطالعہ:** حسبِ حال فرضِ علوم ❀ تفسیرِ صراطِ الجنان ❀ امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جُمُله تحریرات (کُتب، رسائل اور پمفلٹ) کے مطالعے کی تحریک چلانا اور یوں ہی المدینۃ العلمیہ کی پیش کردہ تمام کتب و رسائل بھی ہدف میں شامل ہوں تو کیا بات ہے نیز تنظیمی کتب و رسائل بالخصوص رسائلِ دعوتِ اسلامی، 12 مدنی کاموں و مدنی مذاکروں کے رسائل ❀ مرکزی مجلسِ شوریٰ و دیگر مدنی مشوروں

کے مدنی پھول ❀ مدنی انعامات میں ترغیب شدہ کتب و رسائل ❀ فیضانِ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 ❀ ماہانہ مدنی مشوروں کا بیان ❀ بچت کے مدنی پھول (مجلس مالیات) ❀ شعبے کے مدنی پھولوں میں درج مطالعہ کرنا اور کروانا (تحائف میں یہ کتب و رسائل نیز یو ایس بی / میموری کارڈز ہوں تو کیا بات ہے!) (تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات میں درج ایسے کام جو شرائط فارم میں شامل نہیں ہیں ان کاموں سے متعلق دورانِ اجارہ متعلقہ مجلس اجارہ اور جدول ذمہ دار کی مشاورت سے ترکیب کرنی ہوگی)

13. مدنی مشورے: مدنی مشوروں میں اول تا آخر شرکت کرنا ❀ ٹلک سطح کے مدنی مشورے میں صرف ریجن ذمہ داران کی ہی شرکت ہو ❀ مگر ان مجلس کا جب ریجن میں جدول ہو تو طے شدہ شرکاء کو ہی بلایا جائے۔ (ان کے علاوہ کو بلانا چاہیں تو ریجن نگران کی مشاورت و اجازت ضروری ہے) ❀ طے شدہ مدنی مشوروں کے علاوہ اگر مدنی مشورے کی ضرورت محسوس ہو تو بذریعہ انٹرنیٹ (Zoom یا Skype) مدنی مشورہ کیا جاسکتا ہے ❀ مدنی مشوروں کے مدنی پھول: پاک کابینہ دفتر سے بھیجا جانے والا "مدنی مشوروں کا بیان" پڑھ کر سننا، محاسبہ کروانا، تقرری کا جائزہ، پیشگی و کارکردگی جدول، کارکردگی کا تقابلی جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف، تنظیمی شکایات اور ان کا حل ❀ شعبہ ذمہ دار یا نگران نے شعبے کی جس سطح کا (مثلاً زون ذمہ دار یا نگران زون نے کسی کابینہ کے ڈویژن ذمہ داران کا) مدنی مشورہ کر لیا ہو تو وہ مدنی مشورہ طے شدہ جدول کا ہی شمار ہو گا دوبارہ اس سطح کے مدنی مشورے کی مقررہ مدت میں حاجت نہیں۔

#	سطح	دورانیہ	شرکاء	مدنی مشورہ کرنے والے	وقت (علاوہ نماز و طعام)
1	کابینہ	ہر 3 ماہ	اس کابینہ میں شعبے کے ہر سطح کے ذمہ داران کو بلایا جاسکتا ہے	شعبے کے رکن شوریٰ	3 گھنٹے
2	ٹلک	ہر 3 ماہ	ریجن ذمہ داران	متعلقہ رکن شوریٰ / نگران پاکستان انتظامی کابینہ / نگران مجلس پاکستان	مکمل دن

14. شیڈول: جدول مجلس کی جانب سے ملنے والے پیشگی جدول (Schedule) پر پیشگی اطلاع کے ساتھ عمل کرنا اور کروانا۔ مہینہ مکمل ہونے پر یکم سے 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اور اسی طرح جب بھی جدول میں تبدیلی ہو متعلقہ ذمہ داران (اپنے رکن شوریٰ اور جدول مجلس) کو بھیجنا ❀ 4 ماہ میں پاکستان کے تمام زون میں حاضری مکمل کرنا (شعبے کے مدنی کام + 12 مدنی کاموں میں شرکت کا عملی شیڈول) ❀ ٹلک بھر کے جامعات المدینہ میں (متعلقہ ذمہ دار کی مشاورت اور مجلس جامعۃ المدینہ کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق) (جامعۃ المدینہ میں شعبے کا تعارف کروانا، مدنی کاموں میں شرکت کرنا) ❀ افتاء مکتب میں ہفتے میں 1 دن حاضری ❀ جہاں بھی مدنی مشورے یا دیگر مدنی کاموں کا شیڈول ہو تو پیشگی اطلاع کے ساتھ ترکیب کی جائے۔

15. کارکردگی: ریجن ذمہ داران سے ہفتہ وار رسالے کی انکی انفرادی کارکردگی لینا اور ان کی زون وائرز مجموعی کارکردگی بھی لینا جبکہ اپنی انفرادی کارکردگی پاک کابینہ آفس میں جمع کروانا اور اپنے رکن شوریٰ کو پیش کرنا ❀ ہر ماہ نیز مختلف تنظیمی مواقع پر تمام ریجنوں کی کارکردگی لینا، چیک کرنا، سابقہ کارکردگی سے اس کے مقابل کا جائزہ لینا اور اپنے رکن شوریٰ کو اور پاک کابینہ دفتر میں کارکردگی جمع کروانا۔ اور مزید ترقی کے لئے کوشش کرنا ❀ کارکردگی کے تقابلی جائزے پر ملنے والے مکتوب / صوتی پیغام کا جواب (Reply) دینا۔

16. آئندہ کے اہداف اور فالو اپ: مدنی مشورے میں سابقہ مدنی مشورے کے اہداف کا جائزہ لینا اور آئندہ کے اہداف طے کرنا ❁ مرکزی مجلس شوریٰ، نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ، متعلقہ رکن شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں نیز ❁ دیگر اہداف کا فالو اپ کرنا ❁ مجلس فالو اپ کی طرف سے آنے والے فالو اپ (اہداف) کے مدنی پھولوں کا جواب اپنے رکن شوریٰ اور پاک کابینہ دفتر شعبہ مجلس فالو اپ کو بھیجنا۔

17. تنظیمی شکایات و تجاویز: شعبے سے متعلق تنظیمی شکایات کو حل کرنا، آنے والی تجاویز پر مشورہ کرنا اور ممکنہ صورت میں نافذ کرنا، شعبہ تنظیمی شکایات و تجاویز کی طرف سے موصول ہونے والی تنظیمی شکایات و تجاویز کا رپلائی کرنا ❁ نئی تجاویز بطور ناقص مشورہ نیز تنظیمی شکایات حل نہ ہونے کی صورت میں پاک کابینہ دفتر شعبہ تنظیمی شکایات و تجاویز feedbackpak@dawateislami.net پر یا 03152692786 کے ذریعے بھیجنا۔

18. سنتوں بھرے اجتماعات: پرانے اور نئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی۔ تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات اور شعبے کے مدنی پھولوں نیز کارکردگی فارمز کے لیے وقتاً فوقتاً مدنی مراکز (فیضانِ مدینہ) میں سنتوں بھرے اجتماعات کی تراکیب (اجازت کے ساتھ) کرنا۔

پاک کابینہ دفتر 13 محرم الحرام 1441ھ / 2 ستمبر 2020ء